

مطالعہ صرف سطحی ہوتا ہے۔

۴۔ ۶۔ کئی کتب سے براہ راست مطالعہ کرنے والے امیدوار انگریزی میں صحیح طور پر اداسے مافی الضمیر نہ کر سکنے کے سبب اپنے حقیقی استحقاق سے محروم رہتے ہیں۔

۵۔ سنجیدہ امیدوار اسلامی تاریخ اور اسلامی قانون پر نیسے مضامین کو ترجیح دیتے ہیں جن مضامین کا انگریزی میں وسیع ذمیرہ کتب دستیاب ہو۔

ہم محترم صدر فیضیہ الحق اور چیئرمین وفاقی پبلک سروس کمیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انگریزوں سے اسلام سیکھنے پر مجبور کرنے کے بجائے اسلامی تاریخ و ثقافت اور اسلامی قانون و فلسفہ کے پرچے اردو میں دینے کی اجازت دی جائے۔

امیدواران CSS سال ۱۹۸۱

متبرک کاغذات کا احترام کیجئے | موجودہ دور میں آیات قرآن پاک، حدیث شریف، مقدس مقامات اور مبارک ناموں کو اخبارات، رسائل اور کاروباری اشتہارات میں چھاپا جا رہا ہے۔ یہ کاغذ بعد میں ردی کی طرح استعمال کئے جاتے ہیں۔ بازاروں، اور سڑکوں پر پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں۔ کوڑا لکڑ اور غلاظت کے ڈھیروں پر پڑے پلے جاتے ہیں جس سے ان مقدس تحریروں کی سخت بے ادبی ہو رہی ہے۔ یہ گناہ اس قدر شدید نوعیت کا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ نیز ان مقدس تحریروں کے ساتھ ہی سینماؤں کے اشتہارات اور عورتوں کی تصویریں بھی چھاپی جاتی ہیں۔ جب کہ عورتوں کے لئے پردے کا حکم ہے۔ یہ حیثیت امام مسجد اور عالم دین ہونے کے اور ایک عام مسلمان ہونے کے بھی آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنے قرب و جوار کے ہر شخص کی توجہ اس طرف مبذول فرمائیں اور انہیں اس بے ادبی سے روکیں۔ نیز حکومت کو بھی اس طرف توجہ دلائیں۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ جمعہ المبارک تقریروں میں لوگوں کو اس طرف توجہ دلائیں نیز فرداً فرداً بھی تمام اہل غلہ کو توجہ دلائیں۔ اگر آپ نے اس خط پر پوری توجہ نہ دی تو روز قیامت آپ اس کے لئے جواب دہ ہوں گے۔

ادارہ حرمت تحریر و تصویر۔ راولپنڈی

ایک نل آزار کتاب | ۲۵ ذی الحجہ ۱۳۹۶ھ کو عبد اللہ السلفی نورستانی افغانستانی میرے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک کتاب توحید پر المستحی توحید الامثال فی صفات الامثال کے نام سے لکھی ہے۔ آپ اس پر تقریظ اور دستخط کر دیں۔ میں نے کتاب دیکھے بغیر تقریظ اور دستخط کرنے سے انکار کیا تو اس نے بعض علماء کے دستخط دکھائے تو میں نے ان علماء پر اعتقاد کر کے صرف دستخط کر دئے۔ لیکن جب کتاب منظر عام پر آئی تو اس میں تقلید کو شکر کہا گیا ہے اور تقلید میں حضرات خصوصاً امام ابو حنیفہ اور علماء دیوبند کی نشان میں سخت نازیبا الفاظ استعمال کئے گئے تھے۔ لہذا میں بذریعہ الحق اس کتاب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ (مولانا محمد مسافر تہکال بالا)